

✓ U-192





۲۸۴
 محمد عبد الرحمن یارکر
 مائثرات - کتب
 ۵ - ۶ - ۱۹۸۱

12-68A Tafsīr al-Qur'ān
 parāh 30

no author
 680-72a - misc.

Urdu translation

different from other translations
 of this part of the Qur'ān listed
 in the mss. catalogues

inf
 72 leaves
 118 pp.

اور قوم فرعون جو حدی باہر تھے اور بہت تکبر کرتے تھے شہر و غنیمت
 یعنی ان کو زار اور قوت اور دولت اور غنیمت کے برابر اور تکبر تھا
 فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفُجْعَاءُ وَبِهِمْ أَزْوَاجُ شَيْطَانٍ
 خرابی یعنی بہت نافرمانی کی اور شیعوں دشمنی فصَبَّ عَلَيْهِمُ
 سَرَابٌ مَّعْجُونٌ عَذَابٍ سِرٌّ إِلَّا وَبِئْسَ ثَمَرٌ لِّمَنْ يَكْفُرُ
 اور دھار کے قہجیوں اور گوروں کا اِن سَرَابِ لِبِالْمِصْرِ حَادٍ
 بہ بیک پروردگار شہر ہے صواب کار سے کایہیہ رستے پر بیٹھا
 سب کے بال جلدین دیکھتا ہے کافر جس جلتے ہیں خدا تعالیٰ دیکھتا ہے جو لوگوں
 جَنُوبَانِ قَامَا إِلَى الْفُجْعَانِ إِذْ مَبْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْثَرَهُ
 وَلَعْنَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْبَرُ بِئْسَ جِزَاءُ مَن كَفَرَ
 دھار اور کھا بہر نعمت اور دولت اور غنیمت و تباہی اور سکوا اور مقصود

2